

برائے فوری اجراء

2020 برامپٹن سٹیزنز ایوارڈز کے لیے کسی غیر معمولی رہائشی کو نامزد کریں!

برامپٹن، آن (6 جنوری 2021) – سٹی آف برامپٹن 2020 سٹیزنز ایوارڈز کے لیے درخواستیں قبول کر رہا ہے۔ 16 فروری 2021 سے پہلے غیر معمولی اٹھلیٹس، رضاکاروں اور مقامی ہیروز کو نامزد کریں۔

برامپٹن سٹیزنز ایسے رہائشیوں کی خدمات کو تسلیم کرتے ہیں، جنہوں نے کسی قسم کی مفید کاوشیں کی ہوں یا 2020 کے تقویمی سال کے دوران درج ذیل زمروں میں سے کسی ایک میں بڑی کامیابی حاصل کی ہو:

- **سیورٹس اچیومنٹ ایوارڈ** کے ذریعے برامپٹن کے ایسے رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے جنہوں نے صوبائی، قومی یا بین الاقوامی سطح پر کوئی شاندار کامیابی حاصل کی ہو۔
- **کین گانلز ایمیجر اٹھلیٹ آف دی اینر ایوارڈ** کسی ایسے غیر معمولی شخص کو پیش کیا جاتا ہے، جس نے اپنے متعلقہ کھیل کے غیر پیشہ ورانہ درجے پر بڑا اثر ڈالا ہو اور/یا غیر معمولی کامیابی حاصل کی ہو۔
- **آرٹس اکلیم ایوارڈ** کے ذریعے ایسے افراد کی کاوشوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے جنہوں نے مقامی، صوبائی، قومی یا بین الاقوامی سطح پر کسی فن کے شعبے میں اپنا لوہا منوایا ہو۔
- **لانگ ٹرم سروس ایوارڈ** کے ذریعے ایسے مخلص رضاکار شہریوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے جن کی کاوشوں نے تفریحی کھیلوں، فنون اور کمیونٹی کی سوشل سروسز میں قابل ذکر اثرات مرتب کیے ہوں۔
- **انسپیریشنل ایوارڈ** کے ذریعے برامپٹن کے ایسے شہریوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے جو اعلیٰ مشفقانہ اقدار کا پرچار کرتے ہوں یا ان پر عملی کام کرتے ہوں یا ایسے شہری جو دوسروں کے لیے تحریک کا باعث بنے ہوں۔
- **ایمرجنسی سروسز ایوارڈ آف ویلور** ایسے افراد کی خدمات کو تسلیم کرتا ہے جنہوں نے دوسروں کی زندگی کو بچانے کے لیے رضاکارانہ طور پر اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالا ہو۔
- **سٹیزنز آف دی اینر ایوارڈز** برامپٹن کے تمام عمروں سے تعلق رکھنے والے رضاکاروں کو تسلیم کرتا ہے، جنہوں نے 2020 میں کمیونٹی میں جذبے سے بھرپور اور وقف شدہ شمولیت ظاہر کی۔

ایک سیلیکشن کمیٹی، جو ایوارڈز کے زمروں سے متعلق مہارتیں رکھنے والے کمیونٹی کے اراکین، بمعہ منتخب شدہ حکام، برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز، برامپٹن سپورٹس الانس، برامپٹن سینینرز کونسل اور پبل ریجنل پولیس پر مشتمل ہو گی، کو متعین کیا گیا ہے۔

2019 برامپٹن سٹیزنز ایوارڈز

کووڈ-19 کی وجہ سے، سٹی آف برامپٹن 2019 برامپٹن سٹیزنز ایوارڈز کے وصول کنندگان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے موقع پر تقریب کا انعقاد کرنے کے قابل نہیں تھا۔ 2019 میں ایوارڈز حاصل کرنے والے لوگوں کو اس سال 2020 کے وصول کنندگان کے ساتھ اعزاز پیش کیا جائے گا۔

"برامپٹن سٹیزنز برامپٹن کے غیر معمولی رہائشیوں کو اعزاز پیش کرنے کے لیے ایک اہم موقع ہے۔ یہ ایوارڈز فخر کا باعث بنتے ہیں، تمام لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ ہماری کمیونٹی میں کردار ادا کریں اور ہمارے شہریوں کی بامعنی خدمات کو تسلیم کرتے ہیں۔ کسی رہائشی کو آج ہی نامزد کریں!"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"برامپٹن کے سٹیزنز ایوارڈز 1974 سے ہماری کمیونٹی میں رائج رہے ہیں۔ ہم برامپٹن کے ایسے اٹھلیٹس، رضاکاروں اور ہیروز کی تلاش کر رہے ہیں، جنہوں نے 2020 میں ہمارے شہر میں بڑا اثر ڈالا ہو، تاکہ انہیں ہمیشہ کے لیے ہماری کمیونٹی میں تسلیم کر لیا جائے۔"

- مارٹن میڈیروس، ریجنل کونسلر، وارڈز 3 اور 4: چیئر، سٹیزنز ایوارڈز کمیٹی، سٹی آف برامپٹن

"2020 برامپٹن سٹیزنز ایوارڈز کے لیے اب نامزدگیاں کھلی ہیں! ہر سال، ہم ان ایوارڈز کے لیے درخواستوں کی زبردست حدیں دیکھتے ہیں۔ برامپٹن کے رہائشی حقیقی طور پر ہر دن ہمارے زبردست شہر میں فرق پیدا کر رہے ہیں اور سیلیکشن کمیٹی اس سال کی نامزدگیوں کو دیکھنے اور وصول کنندگان کو منتخب کرنے کے لیے انتہائی منتظر ہے۔"

- برکیرات سنگھ، سٹی کونسلر وارڈز 9 اور 10: چیئر، کارپوریٹ سروسز، سٹی آف برامپٹن

"برامپٹن تبدیلی لانے والوں سے بھرپور ہے اور برامپٹن سٹیزنز ایوارڈز ہماری کمیونٹی میں ان کے غیر معمولی کردار کو تسلیم کرتے ہیں۔ اٹھلیٹس سے لے کر رضاکاروں اور مقامی ہیروز تک، اپنی پسند کے کسی ایسے شخص کو نامزد کریں، جنہوں نے 2020 میں بڑا اثر ڈالا۔"

- ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

-30-

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 650,000 لوگوں اور 70,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca